

6	קדשים	יהוה	לא להיהם	ולא	יחללו	שם	אלהיהם	כי	את
	پاک	ہوں-گے	اپنے-خدا-کے-لیے	اور-نہ	بے-حرمتی-کریں-گے	نام	اپنے-خدا-کا	کیونکہ	-کو
	H6918	H1961	H0430	H3808	H8034	H0430	H0430	H0853	H0853

	אשי	יהוה	לחם	אלהיהם	הם	מקריבם	יהוה	קדש:
	آگ-کے-بدیے	یہوواہ	روٹی	اپنے-خدا-کی	وہ	پیش-کرنے-والے	اور-ہوں-گے	پاک
	H0801	H3068	H3899	H0430	H1992	H7126	H1961	H6944

پیش روٹی کی خدا اپنے یعنی قربانیاں والی جلنے کو رب وہ چونکہ لگائیں۔ نہ داغ کو نام کے خدا اپنے اور ربیں مقدس و مخصوص لئے کے خدا اپنے وہ ربیں۔ مقدس وہ کہ بے لازم لئے اس ہیں کرتے

7	אשה	זנה	יחללה	לא	יקחו	ואשה	גרושה	מאשה	לא	יקחו	כי
	عورت	زانیہ	اور-بے-عزت	نہ	لیں-گے	اور-عورت	طلاق-یافتہ	اپنے-شوہر-سے	نہ	لیں-گے	کیونکہ-
	H0802	H2181	H3808	H3947	H0802	H1644	H0376	H3808	H3947		

	קדש	הוא	לא להיו:
	پاک	وہ	اپنے-خدا-کے-لیے
	H6918	H1931	H0430

ہیں۔ مقدس و مخصوص لئے کے رب اپنے وہ کیونکہ کریں، نہ شادی سے عورت یافتہ طلاق یا کسی کی مندر عورت، زناکار امام

8	יקדשתו	כי	את	לחם	אלהיו	הוא	מקריב	קדש	יהיה	לך
	اور-پاک-کرو-اسے	کیونکہ-	-کو	روٹی	تیرے-خدا-کی	وہ	پیش-کرنے-والا	پاک	ہو-گا-	تیرے-لیے
	H6942	H0853	H3899	H0430	H1931	H7126	H6918	H1961		

	כי	קדוש	אני	יהוה	מקדשכם:
	کیونکہ	پاک	میں	یہوواہ	پاک-کرنے-والا-تمہیں
	H6918	H0589	H3068	H6942	

ہی میں ہوں۔ قدوس رب میں کیونکہ ٹھہرے مقدس لئے تیرے وہ ہے۔ چڑھاتا پر گاہ قربان کو روٹی کی خدا تیرے وہ کیونکہ سمجھنا، مقدس کو امام ہوں۔ کرتا مقدس تمہیں

9	ובת	איש	כהן	כי	תחל	לזנות	את	אביה	היא	מחללת
	اور-بیٹی	آدمی-کے	کابن	اگر	شروع-کرے	زناکاری-کرنے	-کو	اپنے-باپ	وہ	بے-حرمتی-کرنے-والی
	H1323	H0376	H3548		H2181	H0853	H0001	H1931		

	באש	תשרף:	ס
	آگ-میں	جلائی-جائے-گی	-
	H0784	H8313	

جائے۔ دیا جلا اسے ہے۔ دیتی کر ختم بھی کو حالت مقدس کی باپ اپنے وہ بے دیتی کر ختم کو حالت مقدس اپنی سے زناکاری بیٹی جو کی امام کسی

10	והכהן	הגדול	מאחיו	אשר	יוצק	על	וראשו	שמן	המשחה	ומלא	את
	اور-کابن	-بڑا	اپنے-بھائیوں-سے	جس-پر-	ڈالا-گیا	پر-	اُس-کے-سر	تیل	-مسح-کا	اور-بھرا	-کو
	H3548		H0251		H3332		H8081		H4390	H0853	

	ידו	לلبش	את	הבגדים	את	ראשו	לא	יפצע	ובגדיו	לא	יפרם:
	اُس-کے-ہاتھ	پہننے	-کو	-کپڑے	-کو	اُس-کا-سر	نہ	کھولے-گا	اور-اُس-کے-کپڑے	نہ	پھاڑے-گا
	H3027	H3847	H0853	H0853		H3808			H3808	H6533	

کو بالوں اپنے میں عالم کے رنج وہ لئے اس ہے۔ گیا دیا اختیار کا پہننے کپڑے مقدس کے اعظم امام اسے اور بے گیا انڈیلا تیل کا مسح پر سر کے اعظم امام پھاڑے۔ کو کپڑوں اپنے کبھی نہ دے، نہ بکھرنے

11	ועל	כל	נפש	מת	לא	יבא	לא	יבא	ולא	ישמא:
	اور-پاس	کسی-	جانوں	مردہ	نہ	آئے-گا	اپنے-باپ-کے-لیے	اور-اپنی-ماں-کے-لیے	نہ	ناپاک-ہو
	H3605	H5315	H4191	H3808	H0935	H0001	H0517	H3808		

گا۔ جائے ہو ناپاک وہ ورنہ ہو، نہ کیوں لاش کی ماں یا باپ کے اُس وہ چاہے جائے، نہ قریب کے لاش کسی وہ

12	וּמִן־	הַמִּקְדָּשׁ	לֹא	יֵצֵא	וְלֹא	יִחַלְלֵל	אֶת	מִקְדָּשׁ	אֱלֹהֵי	כִּי	נִזְרֵ
	اور-سے-	-مقدس	نہ	نکلے-گا	اور-نہ	بے-حرمتی-کرے-گا	کو	مقدس	اپنے-خدا-کے	کیونکہ	تاج
		H4720	H3808	H3318	H3808		H0853	H4720	H0430		H5145

שָׂמֵן	מִשְׁחָת	אֱלֹהֵי	עָלָיו	אָנִי	יְהוָה:
تیل	مسح-کا	اپنے-خدا-کا	اُس-پر	میں	یہوواہ
H8081		H0430		H0589	H3068

تیل کے خدا کے اُس اُسے کیونکہ گا۔ کرے ناپاک کو مقدس وہ ورنہ جائے، نہ گھر اپنے کر چھوڑ کو مقدس وہ رہے پڑی میں گھر کے اُس لاش کوئی تک جب ہوں۔ رب میں ہے۔ گیا کیا مخصوص سے

13	וְהָיָה	אִשָּׁה	בְּבֵתוֹלָיָהּ	יְקָח:
اور-وہ	عورت	اپنی-کنوارپن-میں	لے-گا	
H1931	H0802	H1331	H3947	

بے-اجازت کی شادی سے کنواری صرف کو اعظم امام

14	אֶלְמִנָּה	וּגְרוּשָׁה	וְנִקְלָה	זָנָה	אֶת־	אֵלֶּיהָ	לֹא	יְקָח	כִּי	אִם־	בְּתוּלָה
	بیوہ	اور-طلاق-یافتہ	اور-بے-عزت	زانیہ	کو	-یہ	نہ	لے-گا	مگر	صرف-	کنواری
	H0490	H1644		H2181	H0853	H0428	H3808	H3947			H1330

מַעֲמִיו	יְקָח	אִשָּׁה:
اپنے-لوگوں-سے	لے-گا	عورت
H3947	H0802	

سے،کنواری کی قبیلے اپنے صرف بلکہ کرے نہ شادی سے عورت زناکار یا کسبی کی مندر عورت، یافتہ طلاق بیوہ، وہ

15	וְלֹא־	יִחַלְלֵל	זֶרְעוֹ	בְּעַמּוּיוֹ	כִּי	יְהוָה	מִקְדָּשׁוֹ:
اور-نہ-	بے-حرمتی-کرے-گا	اپنی-نسل	اپنے-لوگوں-میں	کیونکہ	میں	یہوواہ	پاک-کرنے-والا-اُسے
H3808		H2233		H0589	H3068		H6942

ہوں۔ کرتا مقدس و مخصوص لئے اپنے اُسے جو ہوں رب میں کیونکہ گی۔ ہو نہیں مقدس و مخصوص اولاد کی اُس ورنہ

16	וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֵל־	מֹשֶׁה	לְאַמֵּר:
اور-بول	یہوواہ	سے-	موسیٰ	کہتے-ہوئے	
H1696	H3068	H0413	H4872	H0559	

کہا،بھی یہ سے موسیٰ نے رب

17	דָּבָר	אֵל־	אַהֲרֹן	לְאַמֵּר	אִישׁ	מִזֶּרְעוֹ	לְדַרְתָּם	אֲשֶׁר	יְהוָה	בּוֹ	זָמוּם
بول	سے-	بارون	کہتے-ہوئے	آدمی	تیری-نسل-سے	پشتوں-میں	جس-میں	بو	اُس-میں	عیب	
H1696	H0413	H0175	H0559	H0376	H2233	H1755	H1961				

לֹא	יְקָרֵב	לְהִקְרִיב	לְחָם	אֱלֹהֵי:
نہ	قریب-آئے-گا	پیش-کرنے	روٹی	اپنے-خدا-کی
H3808	H7126	H7126	H3899	H0430

نسلوں والی آنے اصول یہ چڑھائے۔ نہ روٹی کی خدا اپنے کر آ حضور میرے ہو نقص میں جسم کے جس بھی کوئی سے میں اولاد تیری کہ بتانا کو ہارون ہے۔ اٹل بھی لئے کے

18	כִּי	קָרַב־	אִישׁ	אֲשֶׁר־	בּוֹ	זָמוּם	לֹא	יְקָרַב	אִישׁ	עֲנֹד	אֵז	פִּסְחַ
کیونکہ	کوئی-	آدمی	جس-میں-	اُس-میں	عیب	نہ	قریب-آئے-گا	آدمی	اندھا	یا	لنگڑا	
	H3605	H0376				H3808	H7126	H0376	H5787		H6455	

אֵז	קָרַם	אֵז	שְׂרוּעֵ:
یا	چپٹی-ناک-والا	یا	بڑے-اعضاء-والا
			H8311

ہو،بیشی کمی میں عضو کسی کے جس یا ہو ہوئی چری ناک کی جس وہ نہ لنگڑا، نہ اندھا، نہ آئے، نہ حضور میرے معذور بھی کوئی کیونکہ

19	אָז یا	אָיש آدمی	אַשֶׁר- جس-میں-	יְהוָה ہو	בּוֹ اُس-میں	שָׂבַר ٹوٹ	הִגֵּל پاؤں-کا	אָז یا	שָׂבַר ٹوٹ	יָד: ہاتھ-کا
		H0376		H1961		H7667	H7272		H7667	H3027

بو، بوا، ٹوٹا ہاتھ یا پاؤں کا جس وہ نہ

20	אָז- یا-	גִּבּוֹן کبڑا	אֶז- یا-	דָּב بونا	אָז یا	תְּבַלֵּל داغ	אָז- اُس-کی-آنکھ-میں	אָז یا	גָּרַב خارش	אָז یا	יִלְפַת داد	אָז یا
		H1384		H1851		H8400			H1618		H3217	

מְרוּחַ אֶשֶׁר:
کچلے-بوئے
فوٹے
[H0810](#) [H4790](#)

ہو۔ بوئے کچلے خصیے کے جس یا بو بیماری جلدی وبائی جسے یا بو نقص میں آنکھ کی جس وہ نہ بونا، نہ کبڑا، نہ

21	כָּל- کوئی-	אָיש آدمی	אַשֶׁר- جس-میں-	בּוֹ اُس-میں	מוֹם عیب	מִזְרַע نسل-سے	אֶהְרֹן بارون	הַכֹּהֵן -کابن-کی	לֹא نہ	יָנֵשׁ قریب-آئے-گا	לְהַקְרִיב پیش-کرنے
	H3605	H0376				H2233	H0175	H3548	H3808	H5066	H7126
	אֶת- کو	אִשִּׁי آگ-کے-بدیے	יְהוָה بہوواہ	מוֹם عیب	בּוֹ اُس-میں	אֶת کو	לֶחֶם روٹی	אֱלֹהָיו اپنے-خدا-کی	לֹא نہ	יָנֵשׁ قریب-آئے-گا	לְהַקְרִיב: پیش-کرنے
	H0853	H0801	H3068			H0853	H3899	H0430	H3808	H5066	H7126

وہ لئے اس بے نقص میں اُس چونکہ کرے۔ نہ پیش قربانیاں والی جلنے کو رب کر آ حضور میرے ہو نقص میں جسم کے جس اولاد بھی کوئی کی امام بارون چڑھائے۔ نہ روٹی کی خدا اپنے کر آ حضور میرے

22	לֶחֶם روٹی	אֱלֹהָיו اپنے-خدا-کی	מִקְדָּשִׁי پاک-چیزوں-سے	הַקְּדָשִׁים -مقدس-ترین	וּמוֹן- اور-سے-	הַקְּדָשִׁים پاک-چیزوں	יֹאכְל: کھائے-گا
	H3899	H0430	H6944	H6944		H6944	H0398

بے-اجازت کی کھانے حصہ کا اماموں بھی سے میں قربانیوں ترین مُقَدَّس بلکہ مُقَدَّس کی اللہ اُسے

23	אֶז- لیکن	אֶל- طرف-	הַפְּרֹכֶת پردے-کے	לֹא نہ	יָבֵא آئے-گا	וְאֶל- اور-طرف-	הַמִּזְבֵּחַ قربان-گاہ-کے	לֹא نہ	יָנֵשׁ قریب-آئے-گا	כִּי- کیونکہ-	מוֹם عیب
	H0389	H0413	H6532	H3808	H0935	H0413	H4196	H3808	H5066		
	בּוֹ اُس-میں	וְלֹא اور-نہ	יְחַלֵּל بے-حرمتی-کرے-گا	אֶת- کو	מִקְדָּשִׁי میرے-مقدسات	כִּי کیونکہ	אֲנִי میں	יְהוָה بہوواہ	מִקְדָּשִׁים: پاک-کرنے-والا-انہیں		
	H3808		H0853	H0853	H4720	H0589	H3068	H6942			

مُقَدَّس میری وہ ورنہ آئے۔ پاس کے گاہ قربان نہ جائے، نہ قریب کے پردے کے دروازے کے کمرے ترین مُقَدَّس وہ لئے اس بے نقص میں اُس چونکہ لیکن ہو۔ کرتا مُقَدَّس و مخصوص لئے اپنے انہیں جو ہوں رب میں کیونکہ گا۔ کرے ناپاک کو چیزوں

24	וַיְדַבֵּר اور-بولا	מֹשֶׁה موسی	אֶל- سے-	אֶהְרֹן بارون	וְאֶל- اور-سے-	בָּנָיו اُس-کے-بیٹوں	וְאֶל- اور-سے-	כָּל- سب-	בְּנֵי بیٹوں-کے	יִשְׂרָאֵל: اسرائیل	פ
	H1696	H4872	H0413	H0175	H0413		H0413	H3605		H3478	

دیں۔ کو اسرائیلیوں تمام اور بیٹوں کے اُس بارون، ہدایات یہ نے موسیٰ